



بصورت دولتیہ و اہل دارالاسلام

دولت اسلامیہ اور ملک و حکمران سید توفیق اثر بہ مرکزہ حصول سکونہ و ترقیتہ حاصل
ایہ وہ مقامات ہر صیدہ عمارہ لڑائی تو سیدہ سائیدہ و انقباض سبب و برہہ اہوال غریبہ
اہوال مجربہ نیکہ و اہلک مدورہ مدیری ایراہم یا تانک عمارہ وہ قلمہ یکسہ جا لیسہ
صورتہ با سیدہ و بلا صرح خذینتک خابینہ و نظمانہ ملک و ایجابہ بہ صمدہ ہر مقامہ اولہ رفتہ
بیمہ مقاماتک فتح و اہمالہ سے صورتہ دواع و شبہ و عمارتہ فارسی و عمارتہ
ترالیزہ سوختہ ارستھا لہ مجبوہ ایہہ معاہدہ کی عمارہ تک مطالبہ خیر معقولہ
ما خیرین دوستوںہ۔ ولایت و کالی عہدہ عارضیہ توجیہ سوجہ کہ وہ اولہ بحر کبیرہ
مقامہ لڑتک پہلہ ہر خزانہ ہر قیامہ لڑتک لڑتک سیدہ قدیم منزلیہ نہ اعتمدہ صہرہ ارغملہ
تیری رغبتہ کو ستر دیکھ ہلکہ لڑتک اولہ پارہ عہدہ یا تانک لڑتک لڑتک عمارہ صہرتہ سابقہ راستہ
الترام و ام الطوس ارضیہ لڑتک ایہہ خلیفہ تانک ارغملہ مجبوس عمارہ صہرتہ سابقہ راستہ
ملک و اہوال لڑتک۔ ایہہ عہدہ صہرتہ لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک
تفہ بہ بیارہ عہدہ ہر ہاہہ واطہ سیدہ توفیقہ ایہہ لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک
سوسہ تالیفہ ہر ہمدان قانونہ اولہ لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک
مستندہ ہر ایہہ صہرتہ ارغملہ لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک لڑتک
ملکوتہ ہر ہمدان ہر ہمدان ہر ہمدان ہر ہمدان ہر ہمدان ہر ہمدان ہر ہمدان ہر ہمدان



DH-ID-
182/11

تفسیر طالع موهوبه دایمہ ہو رہے ہیں جو بوزیرا ستودہ سفینہ و دروہہ بہ لہ ا جا کہ اولیٰ کہہ رہے ہیں کہ
 نصیبہ ای سید دائرہ اطاعتہ جہنمہ و عتایدہ پریرہ ایانہ راہینہ مہیو قاطعہ
 و اہیہ عفو لہ بہ نظریدہ ما دای سانیہ نہ ارہی و نوظیفہ امریو کہہ اولیہ بنی لام
 عینہ یس عقیبانک الکاتہ داعیہ نہ ویریدہ جہنمہ افہم التزام سفینہ راہینہ
 منہ رہے سفیرک عبدالرزاقہ اولیٰ سالم المحمود واسطہ سیدہ ایستہ یکن اریح سیک لیرہ سونک
 عقیبانہ طرفینہ استقامتہ اہم تقییلہ امیوہ طیبہ اہانہ صاحبہ بہ سفیرک عہم مدققینہ ارہ لہ نہ
 سہ عینہ اتفاقہ اولیٰ ساسہ فریح عقیبانک تمنعہ اللہ نہ ہا لا بحریم فاکس دیو کا عدادہ عم ترارک
 اولیٰ امین اریح نہ رہے بری برنہ ان متاہرہ ہوی اللہ لک توفیقہ کونہ طرفینہ عمل القری رہ
 سا کہ قہ علیہ سونہ رخیک ایہ ارہوال نہ اریح و عتایدہ ان سلا بہ داختہ بہ ویرکس ہی
 خصوصاً بہ جہا جالیہ نظر تافہ و رفتہ ہونہ بہ اریح نہ اول فرصہ سہ سیک لیراہ لا اہم جہم
 مفاہم نہ اریح نہ نہ التزام ایمنہ اولیہ عیبہ یا ت نک ما مدیہ مہلکہ ایہ کیف سات ہا صولتک نظرینہ
 بولہ بولہ مفاہم نک اریح نہ لک بیلا تہ اللہ بہ سیک لیراقہ مہم بریفیک رقیہ نیادہ
 قائمہ ما مدیہ ہوس لیریک ما محس بولہ دیرسہ ایمنہ ہونیا بانک کویا و فنیہ بہ لہ فاقہ
 کہہ نہ ویرکہ تینہ نہ جہ تریل سید لایمہ سفیرک و سونجیرک سالم المحمود واسطہ سیدہ و عینہ
 اولیٰ لہم بریفیک مفاہمہ تفریم بہ ہدیہ استہ عا نام سیک ترویحی و عی ویرتہ جالیو کہہ مفاہم



DH.İD.
182/11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ


تسبیح

۲

ده هزاره دگری دیو کا یک چرخہ - اعیانہ دینیک ایک احمدیہ علم عالمہ ہو زمانہ ستارہ سوسہ
 ایسے مصلوب و مصلوب اولدین از بس عظمت اید اکلہ سیدہ عربیک یونیا یامی دیر جلی معلوم
 اولدیند یارہ مومن برهن غیر نیند یارہ ماکلی اولدیند ماکور بقا طہ رہ چیف رہہ متع اولدیند نہ
 بونک رخہ وسیلہ کتہینہ یا کفالت سلسلہ اہالہ در تیفہ های حاضر وہ اصیہ طریقہ یوسف لیبہ
 اہدال متا سفہ مودفہ تک دفعہ و دفعہ چارہ سہ عا حیلہ با قلمہ یس ایرو درہ ^{حاکمہ} غیر فای تقالہ
 و فی یوم وقوعہ یول دیر کسہ اولدیند چیف شہرہ یوقہ خد صہ لوانک دار راتہ جیمہ شکیل ایسہ
 مفا طہ جیمہ تک کرک دارہ و بہ لارہ حقیقہ ری کرک عا یرو ذرا عک اسایہ دستہ اجندی
 سفوف لہ اید رفتار الی ایسہ عا مدد واسطہ اولدیند یہ جہاں نودان معلوم تک نہ اقلد
 طامع تشبہ لرنک تہبہ و نا تیراہ الی سیدہ و طہ اصیہ و جہاں نزلکہ و اقلد لہ اولدیند کوریکم ماسد
 و قیامہ و انفریاد تصبیح و تفضیلہ یارہ حقوہ ضابطہ فہرہ تک تا مین و ماسدہ مودفہ فہرہ
 ایسہ ہکرتہ نہ تنفیہ و توجیہ ایسہ عا یستتہ تک برینہ اہ جہاں واکا ندرہ و دایورک
 ایسہ تہنیک تا مینہ سوزن ضمتہ عا جزو یف فتنہ عمارہ جہت جہدہ تجا بی و اہدال ممد و اضطر
 عا یہ وقوف صبیہ لہ املک مدورہ مدینہ سوزن لہ ایہم دین املک ماسدہ محمودیات
 یسہ دہد کتہہ حاجی عیسی دہ ہار ایسہ کا تہنہ مرکب بر کتہہ و اہدال طہ یطایرہ ہار ایسہ
 حکمہ یایم ایسہ عا یہ عیسی دہ تہنہ و قیامہ و اہدال نہ پنجہ سنی فہرہ سفوف و قیامہ

DH ID-
182/11





شيرة قانجا


ع

اصحابه استصوابهم الهدى ما نزلتني بغير اده استحقاق انك وبامرك ولا يتة
المبوعه و عبد الرزاقك دونه بغير اده كونه لك لزوم تفهيمى حتى يدركه بغير
كيفية تصويبه بغير اقتداره بغير اده اولا بغير اده اخصا على

ص ١٥ و ١٦

بغير اده بغير اده
عنه

١٥٠٠٠٠
١٨٢/١١



دولت علیہ عثمانیہ تفراف اداره سی

ADMINISTRATION DES TELEGRAPHES DE L'EMPIRE OTTOMAN

L'Etat n'accepte aucune responsabilité à raison du service de la télégraphie

دولت تلغراف عثمانیہ کے لیے ذمہ داری قبول ایجنز [نمونہ ۱]




Retransmission ou Expédition			RECEPTION				
تکرار کثیدہ ویا سوق			اخذ				
سوق نومروسی No d'expédit.	کثیدہ اولشان مرکز transmis à	Date	مأمور امضایی Signature de l'employé	مأمور امضایی Signature de l'employé	تاریخ	واسطہ مرکزی Reçu de	سره نومروسی N° d'ordre
		۲۰۰۰			۱۰/۱۰/۱۰۰۰	ریاست	
		H. ۱۰ M. ۱۰					

De _____ Pour _____ موردي شماره مخبري
 No _____ Mots _____ Date _____ H. _____ M. _____ تاريخ ۱۰/۱۰/۱۰۰۰ شماره ۵۴۰۹ کلمات غروب
 Voie _____ Indic. Eventuelle _____ اشارت علامه طريق

ایک صورت
 رعلیہ راحلیہ نفاذ
 صورت مالک نفاذ اورین

مقدس صلاحتہ معظمہ اسلامیه و محترم حکومت عثمانیه بہ ارتباط
 یکدیگر سے بلدیہ زیارہ عثمانیہ قدر برابر شرط اطاعت لایستفرد
 حکومت بابت اولیہ اجتناب حاضرین استند کم جہتہ اولیہ
 بی بی ملک و بوکوندرہ او بی بی کہ جمعا از بر صحت ظرف
 او بی بی کور لرانک بدک الترافہ تالیہ استمک اطاعت الفنا
 ایلم بتورہ لوا ملتز مارینک کہہ سندہ و تونہ نہ یوزیک کرارہ
 زیارہ زفتاری وار ایلم بندہ کن زمت اوطار لینی کمر حلول استقامہ تقاضی
 تالیہ استیکم کک مضرہ زان ما صلیہ عہہ ایلم اولیان



مجرک ملتزمی
 والبورک و عمارت
 ۲۲/۱۱



داخلیه نظارتی


پٹالنک فہمہ وردی تاریخی				بیضی	مسودی	اوراق عمومی لاسرائی
مقابلہ ایدنلر				تاریخ بیض	تاریخ تسوید	قلم نومرادی
				۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷

بسمہ وادیہ و کتبہ
تلف


موجکیت میندر می جملگی مضامینہ عا۔ ہ۔ د۔ ہ۔ قیدہ ۷۷۷ طرفہ سے تلف
 خوری سے کو۔ یہ۔ ک۔ ویدمتر نیک بون بیٹہ و کتبہ تلف
 اولیٰ صحتیکہ۔ انبا ک۔
 بیضی

DH-ID
182/11

TELEGRAMME



تلفرافنامه



دوات علیہ عثمانیہ تلفراف اداره سی

ADMINISTRATION DES TELEGRAPHES DE L'EMPIRE OTTOMAN

L'état n'accepte aucune responsabilité à raison du service de la télégraphie


دولت تلفراف مامولاندن دولای مشولیت قبول ایتر
[نمونه ۱]

Retransmission ou Expédition			تکرار کشیده و یا سوق		RECEPTION			اخذ	
سوق نومروسی N° d'expédit.	کشیده اولتان مرکز transmis à	Date	تاریخ	مأمور امضای Signature de l'employé	مأمور امضای Signature de l'employé	تاریخ	واسطه مرکزی Reçu de	سره نومروسی N° d'ordre	
		H. M.							

De Pour موردي
 N° Mots Date H. M. ساعت دقیقه تاریخ
 Voie Indic. Eventuelles اشارت محتله

عدد
 را خلیه رقعه رتبه
 ۲۶۰

۱۹۰۰ ساله کلمه
 محمد الخلیفه زکریا کے بق و عالم دن یکہ میرا لیرالی متعاف
 زقتر اولدین وریک بورجان ملتہ مارا الہ رہ الہ مہاری جملہ ملتہ
 قریبیا و بحر صیف ملتہ مارنیا رتہ بیا و نہر سعد و ترانہ ملتہ متعاف
 او چیل و مشر و ملتہ مارنیا آلتر بیا و جوار ملتہ مارا الہ بیا و علی لغری
 ملتہ مارنیا او چیل کور و کیت و جزیرہ و کتہ شرق ملتہ مارنیا آلتر بیا کرہ
 و صیفہ و جتہ قفا طہ لری ملتہ مارنیا اوک الہ بیا نصف خط قفا طہ لری
 ملتہ مارنیا اوک آلتر بیا لیرا میدون اولد قاری آکلہ شیلوہ بوزا لیری
 تحصیل لزوم الہتدہ عمادہ قضا فلفر و کالتہ لازملہ اولدینہ



والی و کلی غنت
 ۱۹۰۰
 ۱۸۲-۱۱۱

